



سوال

(333) یہ طلاق واقع نہیں ہوئی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے میرے مال میں سے میرے بیٹے کو پیسے دیے تو تجھے طلاق 'میرا ان الفاظ سے مقصد یہ تھا کہ وہ میرے بیٹے کو پیسے نہ دے کیونکہ وہ ان پیسوں کے ساتھ اپنی شادی کے موقع پر گانے بجانے والیوں کو لانا چاہتا تھا اور میں نے اپنے مالی حالات کی وجہ سے اس کی اس بات کو مسترد کر دیا تھا میں نے اپنے وسائل کے مطابق اس کی شادی میں مقدور بھر تعاون کیا لیکن جو چیز میں اصل شادی سے زائد ہیں یا مکملات شادی میں شامل ہیں ان پر خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا الغرض مذکورہ بالا الفاظ کہنے سے میرا مقصد اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں تھا امید ہے اس صورت میں اپنے فتویٰ سے نوازیں گے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر آپ کا مقصد بیوی کو منع کرنا تھا کہ وہ آپ کے مال میں سے بیٹے کو کچھ بھی نہ دے اور آق کا مقصد طلاق دینا نہ تھا تو بیٹے کو پیسے دے دینے کی صورت میں علما کے صحیح ترین قول کے مطابق آپ پر قسم کا کفارہ واجب ہے اور بیوی پر توبہ کرنا واجب ہے کیونکہ اس طرح کے امور سے آپ کے حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا بلکہ اس پر نیکی کے کام میں سمع و اطاعت "فرمانبرداری" واجب تھی۔ ہم آپ کو یہ وصیت بھی کریں گے کہ آئندہ اس طرح کی طلاق کے الفاظ استعمال نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے حالات کی اصلاح فرمائے۔

حذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب الطلاق: جلد 3 صفحہ 318

محدث فتویٰ